

أقسام المعرفة (اسم معرفه کی اقسام)

Types of Definite noun

جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ اسم معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی مخصوص اسم (انسان، چیز، جگہ، مقام یا پھر خاص کیفیت وغیرہ) کو ظاہر کرے۔ جب آپ کسی اسم کو معرفہ کہتے ہیں تو وہ خاص اسم آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اب آپ اسم معرفہ کی اقسام کی مندرجہ ذیل پڑھیں گے۔

You already know that it is the noun that refers to a specific noun; (person, thing, place or special condition.... etc.). So, when you say that definite noun, you really mean someone or something definite, you have that specific noun in your mind. Now you will learn following kinds of Ism Ma'rifah.

أقسام المعرفة

Types of Definite noun

المعرفُ ب(ال)

Definite with alif lam

اسمُ الضَّمِيرِ

Personal pronoun

الاسمُ الموصُولُ

Relative pronoun

اسمُ الإِشَارَةِ

Demonstrative noun

العَلَمُ

Proper name

Lesson 4

الإِسْمُ الْعَلَمُ (نام)

(Proper noun)

کسی شخص، چیز یا جگہ کا خصوصی نام کو "عَلَمٌ" کہتے ہیں عَلَمٌ کا لغوی معنی ہے (علامت، جھنڈا، نشانی)۔ عَلَمٌ ایسی نشانی جس سے کوئی شے پہچانی جائے۔ کسی کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اس لیے "عَلَمٌ" الإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ کی قسم ہے۔

The proper noun: A proper name in Arabic is referred to as (اسم عَلَمٌ). The Proper Noun is the definite noun that refers to a specific name of someone or something or some place. It is the given name and it does not need any other word or syllable to be added to specify it. It is definite by itself.

Linguistically it means a sign, flag or a mark. Specifically, a sign with which something can be recognized. Hence, it is a form of الإِسْمُ الْمَعْرِفَةُ . -

Khalid خَالِدٌ

Fatima فَاطِمَةُ

Cairo الْقَاهِرَةُ

The gardens of immortality جَنَّاتِ عَدْنٍ

الإِسْمُ الإِشْرَافَةُ

Demonstrative pronoun

اسم اشارہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ وہ اسماء جن سے کسی معین شخص، چیز یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے، انہیں "اسماء الإِشْرَافَةُ" کہتے ہیں۔

Ism Ishaarah , too, is a kind of Ism Ma'rifah (definite noun). The Ism (noun) which points to a specific/definite person or a thing or a place or an incident or a thought is called Ism Ishaarah.

That "ذَلِكَ" (وہ) This "هَذَا" (یہ)

الإِسْمُ الْمَوْصُولُ

Relative Pronoun

الإِسْمُ الْمَوْصُولُ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ "الإِسْمُ الْمَوْصُولُ" سے مراد وہ اسم جو دو جملوں یا اسم یا مرکب کو ملانے کے لیے آتا ہے۔

AlAsmaa AlMausul (Relative Pronoun) is meant the Ism which occurs to connect two sentences or phrases or nouns.

الَّذِي ، الذّانِ ، الذّينِ ، الّتي ، الّتانِ ، الّاتي / الّلائي

الإِسْمُ الضَّمِيرُ

Personal pronoun.

اسمُ ضَمِيرٍ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ "الضَّمِيرُ" وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کے نام یا کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہو، تاکہ نام کو بار بار دہرایا نہ جائے۔ عربی میں ایسے لفظ کو "ضَمِيرٌ" کہتے ہیں، "ضَمِيرٌ" کی جمع "ضَمَائِرٌ" ہے۔

Experts of Arabic grammar describe Alzameer (pronoun) as a word which is used in place of name of a person or a thing. So the name is not used repeatedly. It's plural is Dhamaair.

مثلاً ہم یہ الفاظ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں سب "ضَمَائِرٌ" ہیں۔ (وہ، تم، ہم، میں، ہمارا، تمہاری، میری، انکی) وغیرہ

Examples in English are (He, you, we, I, our, yours, my, their).

مثلاً (وہ کل میرے گھر آیا تھا میں نے اسے تمہاری کتاب دے دی) (ہم اچھے دوست ہیں)

He came to my house yesterday. I gave him your book. We are good friends.

اب ان جملوں میں (وہ، میرے، میں، تمہاری، ہم) سب الفاظ "ضَمَائِرٌ" ہیں۔ مگر کیا ہمیں ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ "وہ، میرے، میں، تمہاری، ہم" سے مراد کون ہیں؟

In the above sentences, I, him, your, we, are all pronouns.

أَنْتَ ، هُوَ ، هُمْ ، نَحْنُ ، أَنَا

یاد رہے خالی "ضَمَائِرٌ" سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس شخص یا چیز کے لیے لفظ "وہ یا تم" استعمال ہو رہا ہے۔

In the above sentences, he, my, I, your, we, are all pronouns. But can we understand who these words are referring to? We should know that pronouns by themselves cannot denote any person or thing.

چونکہ "ضَمَائِرٌ" کسی خاص شخص یا چیز کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے "معرفہ" ہوتے ہیں۔

They are considered proper nouns (Marifa) because they are used instead of a specific person or a thing.

"ضَمَائِرٌ" کی قواعد کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی دو بڑی اقسام ہیں۔

There are many different types of pronouns according to different rules, but there are two main types.

مُتَّصِلُ ضَمِيرٍ : (Attached pronoun) Muttassil Zameer

مُنْفَصِلُ ضَمِيرٍ : (Detached Pronouns) Mufasil Zameer

اسم الإشارة / اسم الموصول / اسم الضمير إعراب

آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسماء کی تین اعرابی حالتوں (مرفوع منصوب یا مجرور) میں سے کوئی ایک اعرابی حالت ہوتی ہے۔

As you know all nouns have three different conditions of expressions at their end.

اسم الإشارة / اسم الموصول / اسم الضمير اسم کی مختلف اقسام ہیں۔ اس لیے اعراب کے لحاظ سے انکی بھی تین اعرابی حالتیں مرفوع منصوب یا مجرور ہوتی ہیں۔

Because demonstrative noun (ism eshara)/ relative pronouns (ism mosool)/ pronouns (Dhamaair) they are also different types of nouns that's why they can be found in all three conditions, Murfu, Mujroor or Munsoob

لیکن عام اسماء کی طرح "اسم الإشارة / اسم الموصول / اسم الضمير" کی اعرابی حالتوں کی علامات ظاہری طور پر نظر نہیں آتی۔ یہ اسماء ظاہری طور پر ضمائر مخصوص شکل میں ہوتے ہیں جو اپنی شکل بدلتے نہیں۔

But the difference is that these conditions of expressions are not visible on them. Their apparent form never changes.

ان اسماء کی اعرابی حالتوں کا علم انکی جملہ میں پوزیشن یا مختلف قواعد کے ذریعے جانا جاتا ہے۔

Their condition of expression (earab) is determined by their position in the sentence or by specific rules.

